

## ۱۴۔ آؤ باورچی خانہ چلیں



بتاؤ تو بھلا!

- تصویر میں پوریاں پکاتے ہوئے بتایا گیا ہے۔
- پوریاں پکانے کے لیے انھیں تلتے ہیں۔ اس کے لیے لکڑیاں جلا کر حرارت دی جاتی ہے۔
- نیچے دی ہوئی تصویریں دیکھ کر اسی طرح معلومات دو۔



بتاؤ تو بھلا!

- کچھ پکوان پکاتے وقت حرارت کیوں دی جاتی ہے؟
- ہم کون سی اشیا بغیر پکائے کھاتے ہیں؟
- پکوان کے لیے لکڑی کی بہ نسبت گیس کا استعمال کیوں آسان ہے؟




پکوان کس طرح بناتے ہیں؟

- لوگ اپنی پسند کے مطابق قسم قسم کے پکوان بناتے ہیں۔ اس کے لیے وہ دال، چاول، گیہوں جیسی چیزیں لاتے ہیں۔ ترکاری، پھل لاتے ہیں۔ انڈے، گوشت اور مچھلی لاتے ہیں۔ ان سے وہ اپنی پسند کے پکوان بناتے ہیں۔
- کئی پکوان تیار کرنے کے لیے حرارت دینی پڑتی ہے۔



- چاول پکانے کے لیے چاول میں پانی ڈال کر اُباتے ہیں۔ پوریاں، بھجیے جیسی چیزیں تلی جاتی ہیں۔ اس کے لیے تیل یا گھی کا استعمال کرتے ہیں۔ مودک، اڈلی جیسی چیزیں بھاپ میں پکائی جاتی ہیں۔ چپاتی روٹی سینک کر بناتے ہیں۔

غذائی اشیا کو حرارت دے کر بنانے سے وہ آسانی سے ہضم ہو جاتی ہیں اور وہ زیادہ مزے دار ہو جاتی ہیں۔



سبھی غذائی اشیا حرارت دے کر نہیں پکائی جاتیں۔ کچھ اشیا ہم کچی کھاتے ہیں۔ پھل ہمیشہ کٹے ہی کھائے جاتے ہیں یعنی بغیر پکائے۔ ہم کبھی کبھی ٹماٹر، مکڑی جیسی چند ترکاریاں بھی کچی کھاتے ہیں۔ مکڑی کا کچومر، کیلے کی شکران جیسی اشیا حرارت دیے بغیر ہی تیار کی جاتی ہیں۔

### لذت میں فرق محسوس کرو۔

ہے نا دلچسپ بات؟

- ۱۔ پاڑ بھون کر بھی کھاتے ہیں، تل کر بھی کھاتے ہیں۔ ایک ہی قسم کے دو پاڑ لو۔ ایک کو بھون لو۔ دوسرے کو تل لو۔ یہ دیکھو کہ دونوں کی لذت میں کیا فرق ہے؟ تمہیں کون سا زیادہ پسند آیا؟
- ۲۔ مونگ پھلی کے دانے بھون کر بھی کھاتے ہیں اور کٹے بھی کھاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دونوں کی لذت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تم کو کیسے دانے کھانا پسند ہے؟
- ۳۔ کپے آلو کے ٹکڑوں اور ابلے ہوئے آلو کے ٹکڑوں کی لذت میں کیا فرق ہے؟

### • حرارت دینے کے مختلف طریقے

غذائی اشیا (پکوان) تیار کرتے وقت حرارت دینے کے لیے مختلف ایندھنوں کا استعمال کرتے ہیں۔

## ● نیا لفظ سیکھو!

**احتراق پذیر اشیا:** جو شے جل سکتی ہے اسے احتراق پذیر شے کہتے ہیں۔ کافر خود جلتا ہے اس لیے یہ ایک احتراق پذیر شے ہے۔ پانی جل نہیں سکتا، اس لیے وہ احتراق پذیر شے نہیں ہے۔

**ایندھن:** حرارت حاصل کرنے کے لیے جو احتراق پذیر شے آسانی سے استعمال کی جاسکتی ہے اسے ایندھن کہتے ہیں۔ رسوئی گیس، مٹی کا تیل، پتھر کا کوئلہ ایندھن کی مثالیں ہیں۔ سبھی احتراق پذیر اشیا ایندھن کے طور پر استعمال نہیں ہوتیں۔ جو آسانی سے جلتی ہیں اور ان کے جلنے سے کافی مقدار میں حرارت پیدا ہوتی ہے انہیں ایندھن کہتے ہیں۔



آج کل کئی لوگ پکانے کے لیے گیس استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایندھن آسانی سے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ گیس فوراً جلتی ہے۔ اس سے دھواں نہیں نکلتا۔ گیس پر پکانے میں وقت بھی کم لگتا ہے۔



کچھ لوگوں کے پاس چولھے ہوتے ہیں۔ چولھے میں لکڑی استعمال کرتے ہیں۔ لکڑی سلگانا محنت کا کام ہے۔ اس کے علاوہ لکڑیوں سے دھواں بھی پیدا ہوتا ہے۔ ایندھن حاصل کرنے کے لیے درخت کاٹے جاتے ہیں جس سے ماحول کو نقصان پہنچتا ہے۔ کچھ لوگ کونکے کی انگیٹھی استعمال کرتے ہیں۔ کونکے سے دھواں پیدا ہوتا ہے۔ جہاں لکڑی، کونکے جیسے دھواں پیدا کرنے والے ایندھن استعمال ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ باورچی خانے میں کھڑکیاں لگائیں۔ اس کی وجہ سے کافی اُجالا ملتا ہے اور دھواں بھی نہیں بھرتا۔





بجلی والا اسٹو



برنز والا اسٹو



بجلی کی انگیٹھی



مختلف شمسی کوکر

کچھ لوگ ایندھن کے طور پر مٹی کا تیل بھی استعمال کرتے ہیں۔ جس کے لیے وہ اسٹو کا استعمال کرتے ہیں۔ مٹی کے تیل کو گھاسلیٹ بھی کہتے ہیں۔

آج کل بازار میں مختلف قسم کی بجلی کی انگیٹھیاں ملتی ہیں۔ اس کا استعمال بہت آسان ہوتا ہے۔

کچھ لوگ باؤگیس کا استعمال کرتے ہیں۔

سورج کی دھوپ سے حرارت حاصل کر کے شمسی چولھے کے ذریعے کھانا پکانے والے بھی کچھ لوگ ہیں۔

ہم نے کیا سیکھا؟



- \* غذائی اشیاء تیار کرتے وقت انھیں حرارت دے کر پکانا پڑتا ہے۔ اس لیے وہ آسانی سے ہضم ہوتی ہیں اور مزے دار بھی ہوتی ہیں۔
- \* اُبالنا، بھاپ میں پکانا، تلنا، بھوننا یہ حرارت دینے کے مختلف طریقے ہیں۔
- \* کچومر، شکرن جیسی کچھ اشیاء حرارت دیے بغیر بھی تیار کرتے ہیں۔
- \* ایندھن استعمال کر کے آگ پر کھانا پکانا آسان ہو اس کے لیے مختلف قسم کی انگیٹھیاں استعمال کی جاتی ہیں۔
- \* بجلی اور شمسی توانائی کا استعمال کر کے بھی کھانا پکایا جاتا ہے؟

اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں!



لکڑی اور کوئلہ ایندھن کے طور پر استعمال کرنے سے ماحول کے درختوں کا نقصان ہوتا ہے۔



(الف) کیا کریں گے بھلا؟

باورچی خانے میں کون سے کھانے کی انگیٹھی استعمال کرنے سے دیواریں کالی ہو گئی ہیں۔

(ب) آؤ دماغ پر زور دیں!

(۱) نیچے دی ہوئی غذائی اشیاء تیار کرتے وقت حرارت دینے کا کون سا طریقہ استعمال کرتے ہیں؟

(الف) ڈھوکلا (ب) دال (آ مٹی) (۳) پوری (کرنجی)

(ج) بیسن (د) باسندی (۵) شوربا (سوپ)

(۲) دودھ سے تیار ہونے والی غذائی اشیاء کی فہرست بناؤ۔

(۳) گپلا چنا استعمال کر کے کون کون سی غذائی اشیاء بنائی جاتی ہیں؟

(۴) سبزی منڈی سے لائی گئی بعض ترکاریاں ہم بغیر پکائے کھاتے ہیں۔ ایسی ترکاریوں کی فہرست بناؤ۔

(ج) مختصر جواب لکھو:

(۱) غذائی اشیاء بناتے وقت حرارت دینے سے کون سے فائدے ہوتے ہیں؟

(۲) لکڑی استعمال کرنے سے ماحول کو کیا نقصان ہوتا ہے؟

(۳) کھانا پکانے کے لیے گیس استعمال کرنے کے کیا فائدے ہیں؟

(د) معلومات حاصل کرو:

دودھ سے کھوا کس طرح تیار کرتے ہیں؟ اس تعلق سے معلومات حاصل کرو۔ اسے لکھو اور اپنے ہم جماعتوں کو سناؤ۔

### سرگرمی

اپنا ناشتہ خود ہی تیار کرو۔

مٹھی بھر موگ پھلی کے نمکین دانے، چنے، تھوڑے سے مرمرے لو۔ اس میں ایک چمکی نمک اور مرچ ڈالو۔ لیمنو چوڑو۔ سب کو ملاؤ اور کھاؤ۔ ممکن ہو تو اپنے بڑوں کے ذریعہ پیاز، کو تمیر، ٹماٹر، ککڑی وغیرہ کو کاٹ کر ڈالا جاسکتا ہے۔

